



سوال

منفرد کے لئے اقامت لازم نہیں

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

جب میں نماز پڑھنے کا ارادہ کروں تو کیا وقت ہونے کے بعد اذان کی بجائے اقامت کہ لینا ہی کافی ہوگا؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلوٰۃ والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اذان کا شریعت میں اس لئے حکم دیا گیا ہے تاکہ اہل شہر کو بتایا جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اگر سب کے سب اہل شہر ایک جگہ اکٹھے ہوں۔ اور ان کے سوا شہر میں اور کوئی نہ ہو تو پھر اذان واجب نہیں ہے۔ ہاں البتہ مسافر کے لئے اذان دینا مستحب ہے۔ تاکہ اس کی آواز سننے والے حجرہ شجر اس کے بارے میں شہادت دے سکیں اور اقامت کا حکم اس لئے ہے تاکہ حاضرین کو بتا دیا جائے۔ کہ جماعت کھڑی ہونے لگی ہے۔ لہذا جب کوئی شخص انفرادی طور پر نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے لئے اقامت کہنا لازمی نہیں ہے۔

حدا ما عنہدی واللہ اعلم بالصواب

فتاویٰ اسلامیہ

ج 1 ص 337

محدث فتویٰ